Wednesday, [illegible] October



کشمیر کے بربادی کا زمہ دار کون ہے

مصنف۔ حافظ محمد عمر قادری

Kashmir issue page 1

اگر ہم کشمیر کی بات کرئے کہ قوم کیسے امن پا سکتی ہے یعنی سب لوگ کیسے خوشی سے اپنی زندگی بسر کریے اسکے لئے ۔ بنیادی مسائل حل ہونے لازمی ہیں۔ کشمیر میں برسوں سے قوم غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ہاں کچھ کشمیری لوگ غریبوں کا گلا گھونٹ کر خون چوس رہیں ہیں لیکن اکثریت مصیبت کی زنگی گزار رہیں ہیں۔ اس لئے اب قوم کا یہ حال ہو چکا ہیں ۔ کہ جس کو جس طرح بھی پینسے مل جائے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے پر کیا قیامت آئے گی۔

سب لوٹ مار کر رہیں ہیں۔ اس میں غریب اور امیر کی کوئی فرق نہیں ۔ یعنی امیر لوگ تو بے ایمانی سے ہی امیر بنے۔ الا ماشاءاللہ ہزاروں میں ایک کے پاس حلال دولت ہو۔ لیکن یہاں غریب بھی کچھ کم نہیں اسے بھی جس طرح ممکن ہو سکے وہ دوکھا کرتا ہے جس کے وجہ سے معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہیں معاشرے کی بربادی ملک کی بربادی ہیں۔ ہاں کسی حد تک یہ باتھ بھی صحیح ہیں کشمیری قوم کویہ کرنے پر مجبور کیا گیا ماحول ایسا بنایا گیا ۔ کچھ لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنایا گیا اور کچھ کو ہیرو سے زیرو۔ اس لئے ہر کسی کو آج صرف اپنی فکر ہے میں کس طرح امیر بنوں ۔ کشمیری شناخت کو مسخ کرنے کے پیچھے تین ہاتھ ہیں ۔ ہند ،پاک،کشمیر،

یہ تینوں ہاتھ مل.کر کشمیر کو انسانیت سے حیوانیت کے طرف لے گے۔ جب بھی کبھی جس ہاتھ کو طاقت ملتی تھی۔ وہ ایسا کچھ کرتا تھا قوم ترقی کے بجائے بربادی کی طرف جاتی تھی۔

پہلی غلطی۔

ہند،پاک نے ہر وقت مخصوص لوگوں کو اہمیت دی ۔ یہ نہیں دیکھا یہ نامور لوگ کس طرح اس مشہوریت پر پہنچ گئے۔جب کہ وہ مفاد پرست غریب عوام کے ساتھ دوکھا کرکے اس مشہوریت کو حاصل کر چکے تھے۔ ہند،پاک،نے ساتھ دئے کر انکی طاقت مزید مظبوط کردی اور وہاں ہی سے یہ بربادی کا سلسلہ شروع ہوا طاقت ملنے کے بعد انہوں نے

Kashmir issue page 4

قوم کو لوٹ مار کے طرف راستہ دیکھا یا خد

امیر بن گئے۔ لوگوں کو تقسیم کردیا ۔ اسی لئے آج قوم کی یہ حالت ہیں ہر کوئی دوسری کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے ۔ کشمیر میں لاکھوں برسوں کے بعد بھی تب تک امن نہیں آئے گا جب تک ۔دو چیزے نہیں بدلے گئ۔ ہند کی نظریہ اور خد کشمیری قوم۔ ہند حکومت دعوا کررہی ہے ہم کشمیر کو بدل دینگے۔ ہو سکتا ہے اگر چہ انکی نیت درست بھی ہو کشمیر میں امن لانے کے لئے۔ جب کہ وہ بنیادی مسائل کو نظر انداز کررہیں ہے

Kashmir issue page 5

۔ وہ مخصوص لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کشمیر کی لگام انکے ہاتھ میں دیکر امن آئے گا ۔ جب کہ ایسا ممکن نہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے کشمیر میں کون کیسا ہیں۔ یہ سب سیاسی پارٹیاں جتنے بھی کشمیر میں ہیں ان کے لیڈر اور ورکرز مفاد پرست اور کرپٹ ہیں ان میں انسانیت کی کوئی چیز نہیں ۔ یہ لوگ کشمیر کو مولی گاجر کی طرح کھائے گے جس طرح کھاتے رہیں ۔ میں سمجھتا ہوں قوم تب تک نہیں بدل سکتی جب تک حکومت ہند کشمیر کے بنادی چیزوں کو نہیں سمجھے گی

Kashmir issue page 6

ایک مسئلہ حل ہوگا تو اس سے پھر سب مسلے حل ہونگے اور وہ مسلہ صرف کشمیری کی آزادی نہیں ہے پہلے قوم کو بدلنا ہوگا ۔ کشمیری قوم کو کسی نے قید نہیں کیا ہیں تو آزادی کس بات کی یہ تو خد ظالم اور جابر بن رہی ہیں ۔ کشمیری قوم کی لاکھوں غلطیاں اپنی ہیں ۔ ہند،پاک کی صرف ایک غلطی ہیں۔ محمد عمر قادری

umarskhi@gmail.com

5 October 2022